

برائے فوری اجراء

## برامپٹن کاروبار کے لیے کھلا ہے ڈیولپمنٹ چارجز کے ضمنی قوانین میں تبدیلیاں شہر میں کاروبار شروع کرنے کے لیے ترغیب فراہم کر رہی ہیں

برامپٹن، آن (19 جون 2019) – آج برامپٹن سٹی کونسل نے 2019 ڈیولپمنٹ چارجز (DCs) ضمنی قوانین کی منظوری دے دی، جو بڑی دفتری کارپوریشنز اور چھوٹے کاروباروں کو برامپٹن میں منتقل ہونے کے لیے مراعات فراہم کرتے ہیں۔

نئی میجر آفس ڈیولپمنٹ چارج ایگزیمپشن سے "میجر آفس ڈیولپمنٹ" کے لیے ڈیولپمنٹ چارجز میں سے برامپٹن کے حصے کے چارجز ختم کر دیے جائیں گے، جس کی کم از کم 50,000 مربع فٹ اور کم از کم دو منزلہ اونچی علیحدہ عمارت کے طور پر تعریف کی گئی ہے۔ یہ تبدیلی بڑی کارپوریشنز کو اپنے ہیڈ آفس برامپٹن میں منتقل کرنے کے لیے تحریک فراہم کرے گی۔

ڈیولپمنٹ چارجز کے ضمنی قانون میں ایک اور تبدیلی، چینج آف یوز ایگزیمپشن، ڈیولپمنٹ چارجز سے استعمال کی تبدیلی کے مبادلوں (صنعتی سے کاروباری) کو استثنیٰ دے دے گی، جو چھوٹے کاروباروں کی سابقہ طور پر صنعتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی جگہوں میں منتقل ہونے کی حوصلہ افزائی کرے گی۔

ڈیولپمنٹ چارجز میں تبدیلیاں ڈیولپمنٹ چارجز بیک گراؤنڈ اسٹڈی کا نتیجہ ہیں، جس میں بنیادی فریقین سے مشاورت بھی کی گئی تھی، بشمول برامپٹن کی کاروباری کمیونٹی، جس نے ان تبدیلیوں کے لیے اپنی حمایت ظاہر کا اظہار کیا تھا۔

برامپٹن کاروباری اور تعمیراتی کمیونٹی کے ساتھ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے کہ سٹی کاروباروں کے لیے منتقل ہونے اور بڑھنے کے لیے بہترین حالات رکھے۔ ڈیولپمنٹ چارجز کے ضمنی قوانین میں ان تبدیلیوں کے علاوہ، برامپٹن ایک مضبوط کمیونٹی امپروومنٹ پلان (CIP) کا نفاذ بھی کر رہا ہے۔ CIP ایسے پروگرام شروع کرے گا، جو زمین کے استعمال کی منصوبہ بندی کو کاروباروں اور تعمیر کنندگان کے لیے تحریک کے طور پر معاشی اور دیگر ٹولز کے ساتھ جوڑے گا، جو برامپٹن کو ایک پسندیدہ مقام بنائے گا۔ ایک ساتھ مل کر یہ اقدامات پورے سٹی میں معاشی ترقی کے مواقع کو فروغ دیں گے اور کاروبار اور سرمایہ کاری کی ایک جگہ کے طور پر برامپٹن کے مقام کو مضبوط تر کریں گے۔

### اقتباسات

"ڈیولپمنٹ چارجز میں یہ تبدیلیاں ہمارے کمیونٹی امپروومنٹ پلان اور ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اسٹریٹیجی کے مطابق ہیں، جنہیں برامپٹن میں ملازمتیں اور سرمایہ کاریاں لانے اور مواقع کا ایک شہر تعمیر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کئی شعبوں میں کوششیں کرنے کے لیے پرعزم ہیں کہ ہم ہر حجم کے کاروبار کے لیے ہم پر غور کرنے کے لیے ایک مرکزی مقام ہوں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

ہمارے شہر میں کاروباری سرمایہ کاری کونسل کے اس دور کے لیے بہت اہم ترجیح ہے اور مستقبل میں ہماری کامیابی کے لیے ایک کلیدی تقاضہ بھی ہے۔ اس قسم کی تبدیلیاں برامپٹن کو مقامی اور بیرونی کاروباروں کے سرمایہ کاری کرنے کے لیے ایک پرکشش مقام بنانے کے ہمارے عزم کو ظاہر کرتی ہیں۔"

- ریجنل کونسلر پال ویسٹن، شریک چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

"ڈیولپمنٹ چارجز کے ضمنی قانون میں ترمیم ترقی کے لیے ایک ترغیب پیدا کرے گی، ملٹی نیشنل کمپنیوں کو کشش فراہم کرے گی اور ہمارے شہر میں مزید ملازمتیں پیدا کرے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی حکومت کی جانب سے اس قسم کی حمایت سٹی آف برامپٹن میں دوسری میونسپلٹیوں کی نسبت اول درجے کے کاروباری رہائشیوں کے لیے زیادہ کشش پیدا کرے گی اور ظاہر کرے گی کہ سٹی واقعی میں "کاروبار کے لیے کھلا" ہے۔"

- اگناٹ کینیف، چیئرمین اینڈ CEO، کینیف گروپ آف کمپنیز

"برامپٹن جیتنے کے لیے مقابلہ کرتا ہے۔ ایک ترقی پسند کمیونٹی امپروومنٹ پلان کے ساتھ، ضمنی قوانین میں یہ تبدیلیاں ایک اور ایسا مثبت قدم ہے، جو برامپٹن کو بڑی کاروباری سرمایہ کاریوں کے لیے مزید تر پرکشش جگہ کے طور پر ممتاز بناتا ہے۔"

- ٹاڈ لیٹس، CEO، برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے [ٹوئٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر رابطہ کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)